

برائے فوری اجراء

## میٹروولنکس بورونٹیرو ایل آر ٹی پروکیورمنٹ کے اعلان پر سٹی آف برامپٹن کی جانب سے بیان

برامپٹن، آن (26 اگست 2019) – انفراسٹرکچر اوتھیریٹی (IO) اور میٹروولنکس کی جانب سے ایک حالیہ اعلان میں، موبیلنکس کو بورونٹیرو لائینٹ ریل ٹرانزٹ (HuLRT) کا ڈیزائن تیار کرنے، تعمیر کرنے، اخراجات کرنے، چلانے اور دیکھ بھال کرنے کے لیے ترجیح شدہ محرک کے طور پر منتخب کیا گیا ہے۔

سٹی آف برامپٹن، پوسٹ کریڈٹ گو سے برامپٹن گیٹ وے ٹرمینل کے قریب سٹیلاز ایونیو تک بورونٹیرو LRT لگانے کے لیے میٹروولنکس اور سٹی آف مسی ساگا کے ساتھ کام کرتا رہا ہے۔ بورونٹیرو LRT علاقائی آمد و رفت کے نیٹ ورک کا ایک اہم حصہ ہو گا اور برامپٹن اور گریٹر ٹورانٹو اور ہیملٹن ایریا کے اندر رہائشیوں اور کاروباروں کو تیز، قابل بھروسہ، آسان اور مربوط ذرائع آمد و رفت فراہم کرے گا۔

یہ LRT کے پہلے مرحلے کے لیے پرجوش خبر ہے، جبکہ عملہ LRT کو مین اسٹریٹ سے ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن گو اسٹیشن تک لانے کے لیے دوسرے مرحلے پر کام کر رہا ہے۔ اس سال کی ابتداء میں میٹروولنکس نے پراجیکٹ میں تبدیلیاں کیں اور ترمیم شدہ معاہدے میں مستقبل کی تبدیلیوں کے لیے جگہ رکھی، بشمول برامپٹن تک ممکنہ توسیع۔ ان تبدیلیوں نے مستقبل میں LRT کی سٹیلاز ایونیو کے شمال میں برامپٹن گو اسٹیشن تک توسیع کو ممکن بنایا، جو مزید مطالعہ جات اور منظوریوں پر منحصر ہو گی۔

پراویٹاریو LRT پراجیکٹ **برامپٹن 2040 ویژن** کی جانب سٹی کے سفر میں ایک کلیدی قدم ہے، جس میں ہم نقل و حمل کی تمام اقسام کو برابر کر کے 2018-2022 ٹرم آف کونسل ترجیحات کے تحت برامپٹن کو ایک سرسبز و شاداب شہر بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔

### اقتباس

"موثر ذرائع آمد و رفت سٹی کی ان کلیدی ترجیحات میں سے ایک ہے، جن کا تعین ہمارے شہریوں نے کیا۔ ہم اس پراجیکٹ کو آگے بڑھنا دیکھنے پر خوش ہیں اور ہم مرحلہ 2 کے لیے تمام ممکنات کی چھان بین کرنا جاری رکھ رہے ہیں، جو سرنگوں والے LRT کو ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن میں لانے کا۔"  
- میئر پیٹرک براؤن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

### میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)